

16 جولائی 2018

22 جولائی کو اسٹامپ این سٹیپیڈ (Stomp N' Stampede) کی گارڈن اسکوائر میں دوبارہ واپسی

برامپٹن، آن - 22 جولائی کو برامپٹن کے گارڈن اسکوائر میں شام 4 - 8 بجے تک تمام کنٹری میوزک کا لطف اٹھائیں! بچوں کی سرگرمیوں، مزیدار کھانوں، موسیقی اور ڈانس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنا کاؤ بوائے ہیٹ اور بوٹ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں لے کر آئیں۔ DJ جونی ریویکس ہوا کے دوش پر کنٹری میوزک کی دھنیں بکھیریں گے جبکہ آپ ویسٹ کوٹ شفل سیکھ سکیں گے اور آپ کے پاس ڈیبل ڈبل لائن ڈانسرز سے لائن ڈانسنگ سیکھنے کا موقع بھی موجود ہو گا۔

اس سال اسٹامپ این سٹیپیڈ کے ہیڈلائنر ساچا ویساجی ہوں گے، جو 2016 کے نیکسٹ کنٹری میوزک اسٹار کے فاتح ہیں۔ شام 6:15 اور 7:30 پر، ساچا دو سیٹس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں موجود ایک مرتعش اور محرک عوامی جگہ گارڈن اسکوائر، اس سال موسم گرما کے دوران آپ کی ملکی تقریبات کا مرکزی مقام ہو گا۔ اسٹامپ این سٹیپیڈ اور گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کی پوری تفصیل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca/gardensquare یا سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کریں:

[instagram.com/garden.square](https://www.instagram.com/garden.square) · twitter.com/gardensqlive · facebook.com/brampton.gardensquare

اقتباس:

"گارڈن اسکوائر میں منعقد ہونے والے موسم گرما کی تقریبات میں ہمارے تمام رہائشیوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ مشہور زمانہ اسٹامپ این سٹیپیڈ کا دلدادہ ہر شخص باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ باہر نکل کر اسکوائر میں تشریف لائیں اور کنٹری میوزک کی اس ہر دلچیز تقریب میں شرکت کریں۔"

- میئر لنڈا جیفری-

-30

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔